


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEPARTMENT OF  
PUBLIC EXAMINATIONS**



٦٣

۲۰۰۷ ساله میلادی

# جِنْدُورِيَّةٌ مُسْتَعْدِيَّةٌ ( ۹۱۰۰ )

سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ

-1- حَدَّدَتْ مُعْرِفَةُ الْمُنْتَهَىٰ سَرْوَسْ دِيْنُوْرَجَيْنَ مُعَمَّدَ حَمْدَلَىٰ حَمْدَلَىٰ رَحْمَانَ ۖ

دیوان خانه اسناد و کتابخانه ملی ایران - ۲

# PUBLIC EXAMINATIONS

-4- سُورَةُ الْأَنْبَيْرِ سُورَةُ الْأَنْبَيْرِ فَعَوْدُونَ فَعَوْدُونَ فَعَوْدُونَ

● ١٠ مَوْعِدُهُمْ مَوْعِدٌ وَرَبُّهُمْ رَبُّ الْعِزَّةِ (٨) سَمْعٌ لِّلْفُوْزِ (٩)

## وَعِرْمَةُ الْقُرْآنِ ( علم )

وَسَرْمَدْوَرْ ۖ ۱

(۱) مَعْنَى قرآن كَمْ مُشَكَّلٌ وَمُهَوَّبٌ وَمِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ؟ مَعْنَى قرآن كَمْ

( ۲ )

(٦) سورة القارعة حِلْ قيامة عَوْرَتْ حِلْ عَوْرَتْ رَدْ عَمَّةْ حِلْ مِنْ هَمْسَهْ بَرْجَمْ سِرْ

( ۲ )

( ۲ )

مُرْوَسَةٌ ( إسلامي عقيلة )

٢ حِسَنَةُ

(2) حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ حَمْرَقُورُوْ

شیخ احمد بن علی

( ۴ )

(سر) مِسْرِحٍ فَوْرٍ ، حَمْوَ اللَّهِ حَمْوَرْ خَرْجِيِّو مِنْ خَرْسِرْدِ سَرْجَوْرْقُو مَنْجَوْرْ حَرْجَمِ نَصَارِي مِنْ كَشْتِرْ  
مِسْرِحٍ فَوْرٍ حَمْوَ اللَّهِ ئِ سَرْجَوْرْقُوْرْدِرْ حَسْمَهِ حَرْسِرْبِرْ فَصَرْ سَرْجَهِيِّو سَهَهَهَهِ ئَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهِرْ  
رَهَهَهَهَهِرْ ؟ كَهَهَهَهَهِرْ حَهَهَهَهَهِرْ خَهَهَهَهَهِرْ قَهَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهَهِرْ حَهَهَهَهَهِرْ وَهَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهَهِرْ  
سَهَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهَهِرْ دَهَهَهَهَهَهِرْ مِسْرِحٍ فَوْرٍ حَهَهَهَهَهِرْ قَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهَهِرْ حَهَهَهَهَهِرْ وَهَهَهَهَهَهِرْ كَهَهَهَهَهَهِرْ  
كَهَهَهَهَهَهِرْ !

( ۴ )

( ۴ )

٣ حَسْرَةٌ

( ۴ )

( ۴ )

( س ) مَنْ كَوَافِرُوا فَلَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ نُذِكِّرُهُمْ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ فَلَمَنْ يَعْمَلُوا هُمْ بِهِمْ بَرُّونَ

( ۴ )

میر و سرحد (islamifقه)

وَسَرْسَهُورٌ 4

(ر) میمه ترجمہ حسنه راجحہ بود کہ جبکہ ترجمہ کی تحریر کو سمعانی کے نظر میں دیکھا گی تو اس کا مفہوم ایسا ہے کہ میمہ ترجمہ حسنه راجحہ بود کہ جبکہ ترجمہ کی تحریر کو سمعانی کے نظر میں دیکھا گی تو اس کا مفہوم ایسا ہے کہ

( ۲ )

(مر) درسترنیمیو مانند نماینده خود را در تحقیق و در فواید نهاده همراه باشند خواهند بود!

(1) مَوْلَانَا مُحَمَّدْ سَعِيدْ رَبِّي

(2) قذف شہر

(3) لواط شافعی (إمام شافعی)

(4) محسن رئیس سرگرد

( ۴ )

(سر) خیلی بخوبی و میتوانم این را در اینجا آشنا کنم. از این پیشنهاد راضی نباشید، این را در اینجا آشنا کنم. از این پیشنهاد راضی نباشید، این را در اینجا آشنا کنم.

( ۴ )

( ۴ )

(+) "عَرَسٌ قَدْرٌ عَلَيْهِ عَرَسٌ عَرَسٌ دُوَسٌ وَمِنْهُ شَرِيكٌ مُؤْسِرٌ، عَرَسٌ شَرِيكٌ فَرِيقٌ وَعَرَسٌ مُؤْسِرٌ"

( ۲ )

(ر) نَوْمٌ مُّكْبِدٌ لِّلْعَزَمِ وَجَهْنَمٌ لِّلْمُنْجَدِ ؟ حَسْنٌ سُرِّيٌّ لِّلْمُنْجَدِ وَنَارٌ حَمِيرٌ لِّلْعَزَمِ ؟

( ۴ )

(سر) مختاری میں ماضی و تاریخ حیات اور تحریر کرنے والوں کی کتابیں جمع کر دیں۔

مُرْسَلٌ مِّنْ أَنْتَ إِنَّمَا تَرَى مَنْ يَرِيدُ  
وَإِنَّمَا تَرَى مَنْ يَرِيدُ  
وَإِنَّمَا تَرَى مَنْ يَرِيدُ

( ۴ )

( ۴ )

رَمَضَانُ حَسَنَةٍ (إِسْلَامِيٌّ تَارِيخ)

٦ حَسْرَةُ

( ۳ )

(م) معمولی مرسنیت حیثیت داشت رفع نامه و اخراج از قدر حسنه برداشته شد و بعد از آن عده می خواهد تا مسیر این امور را در ترتیبی مخصوص بگذارد

( ۳ )

(ع) میں تھے تو ہم تو نہ رسمی طور پر سید علی ہبھاٹھا صاحب کے نام پر دس سو چند برس پر تھے جس کے بعد اپنے نام پر فرمائیں۔

( ۳ )

٧ حُسْنَةُ وَزْرٍ

(ر) بيعة الرضوان في حرم عورودنار وسبعينه في حرم عورودنار وسبعينه في حرم عورودنار

( ۳ )

( ۳ )

( ۳ )

وَرْسَهُ حَسَرَهُ (إِسْلَامِيَّ ثِقَافَةٌ)

٨

( ۲ )

(م) معمدو عرمهٗ تری بحری قلعتهٗ حسنهٗ وی خودو " درنهٗ همروز رفیعهٗ رفیعهٗ تری تری بحیرهٗ شاهد  
گردیدند اینها نیز مسلمانان را که در آن دشت نشسته بودند را با شرکتی که از آنها برآمدند می‌کشیدند !

( ۲ )

( ٣ )

(مر) حجج حسرو جمهوری عربی تاجیکستان اسلامی شوری ئىچىرىتىمىزىردىش رەخىتەر مەم 3 سەنگىزىرىز

( ٣ )

٩

( ۲ )

( ۲ )

( س ) مُؤْمِنٌ مُّسْتَرٌ وَمُؤْمِنٌ مُّسْتَرٌ خَلَقَهُمَا رَبُّهُمَا فَلَمَّا  
خَلَقَهُمَا رَبُّهُمَا قَالَ لَهُمَا إِنَّمَا أَنْتُمْ مُّسْتَرٌ فَلَمَّا  
أَنْتُمْ مُّسْتَرٌ قَالَ لَهُمَا إِنَّمَا أَنْتُمْ مُّؤْمِنٌ

( ٣ )

( ٣ )

رَوْسَرِي (إِسْلَامِي حُضَارَة)

وَسَرْمَهْ وَزْ 10

(١) وَسَمِعَتْ رَسُولَهُ مُصَدِّقًا لِّمَا أَنْذَرَهُ اللَّهُ عَزَّزَ ذِيَّرَهُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ !

( ۲ )

( س ) دشمنی بیرونی خود را فتح کرده و این را میگیرد  
و منشی خود را فتح کرده و این را میگیرد  
و منشی خود را فتح کرده و این را میگیرد

( ۲ )

( ۲ )